

**STEP  
TOGETHER**

**کیا آپ کا کوئی  
واقف غلط راستے  
پر چل پڑا ہے؟**

**آپ مدد کر سکتے ہیں۔**

**STEP  
TOGETHER**

رازدارانہ مشورے اور مدد کے لیے:

1800 875 204 پر کال کریں

دیکھیں [STEPTOGETHER.NSW.GOV.AU](http://STEPTOGETHER.NSW.GOV.AU)

جلد مدد لوگوں کو متشدد انتہا پسندی  
کی طرف جانے سے روک سکتی ہے۔ پتہ  
کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔

1800 875 204 پر فون کریں یا یہ ویب

سائٹ دیکھیں [STEPTOGETHER.NSW.GOV.AU](http://STEPTOGETHER.NSW.GOV.AU)



**رابطہ کریں**

@steptogethernsw

@StepTogetherNSW

@steptogethernsw



## دوسروں سے الگ رہنا۔ تعلق چھوڑ دینا۔ اکیلا پن۔

یہ عام احساسات ہیں اور ہم سب کو دوسروں سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار جب لوگ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہوں، انہیں انتہا پسند گروہوں میں یہ تعلق مل جاتا ہے جو 'وابستگی' کی خواہش کو استعمال کر کے اپنے ارکان بھرتی کرتے ہیں۔

## قبول کرنا۔ شامل کرنا۔ سہارا۔

یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن کبھی کبھار صرف ایک بات سننے والے شخص کی وجہ سے ہی کسی کو تحفظ مل جاتا ہے۔

بری رائے قائم کیے بغیر بات سن کر آپ ایک شخص کو اپنی کمیونٹی میں وابستگی تلاش کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ تشدد کے حامی گروہوں میں یہ تعلق تلاش کرنے لگے۔

لیکن آپ کو یہ اکیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

## Step Together مدد کر سکتی ہے۔

ہماری ہیلپ لائن کے امدادی کارکن آپ کو دوسروں کی مدد کرنے اور آپ کی کمیونٹی میں مزید امدادی خدمات سے رابطہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔

1800 875 204 پر ہمیں فون کریں یا  
[steptogether.nsw.gov.au](http://steptogether.nsw.gov.au) دیکھیں۔